

# BOARD OF INTERMEDIATE & SECONDARY EDUCATION, LAHORE

## PRINCIPLES OF ACCOUNTING PAPER I

### MODEL PAPER FOR ANNUAL EXAMINATION, 2024

#### OBJECTIVE TYPE

TIME ALLOWED: 30 Minutes

MAXIMUM MARKS: 20

**Q. 1 Note:** Four possible answers A, B, C and D to each question are given. The choice which you think is correct, fill that circle in front of that question with Marker or Pen ink in the answer-book. Cutting or filling two or more circles will result in zero mark in that question.

نوٹ: ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات اے بی سی اور ڈی دیے گئے ہیں جوابی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرے کو مار کر یا پین سے بھر دیجئے ایک سے زیادہ دائروں کو پر کرنے یا کاٹ کر پر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔

1. Sufi Traders prepare their accounts on the basis that it will continue to trade in the foreseeable future. Which accounting principle is being applied?

صوفی ٹریڈرز اپنے اکاؤنٹس اس بنیاد پر تیار کرتے ہیں کہ یہ مستقبل قریب میں تجارت جاری رکھے گا۔ اکاؤنٹنگ کا کون سا اصول لاگو کیا جا رہا ہے؟

- A. Dual aspect concept
- B. Accounting period concept
- C. Matching concept
- D. Going concern concept

دہرے اندراج کا اصول  
حساب نویسی کے دورانیے کا اصول  
مطابقت کا اصول  
جاری کاروبار کا اصول

2. Sohail is a customer of Jamal. The balance on Sohail's account in Jamal's books is Rs. 200 debit. Sohail sends Jamal a cheque for Rs. 50. What is the balance on Sohail's account after this transaction?

سہیل جمال کا گاہک ہے۔ جمال کی کتابوں میں سہیل کے اکاؤنٹ میں 200 روپے ڈیبٹ بیلنس ہے۔ سہیل جمال کو 50 روپے کا چیک بھیجتا ہے۔ اس لین دین کے بعد سہیل کے اکاؤنٹ میں بیلنس کیا ہے؟

- A. Rs. 150 credit
- B. Rs. 150 debit
- C. Rs. 250 credit
- D. Rs. 250 debit

150 روپے کریڈٹ  
150 روپے ڈیبٹ  
250 روپے کریڈٹ  
250 روپے ڈیبٹ

3. The purchase of a motor vehicle was entered in the motor expenses account. What kind of error was this?

موٹر گاڑی کی خریداری موٹر اخراجات کے کھاتے میں درج کی گئی تھی۔ یہ کس قسم کی غلطی تھی؟

- A. Principle
- B. Compensating
- C. Commission
- D. Omission

اصولی  
تلافی  
ارتقابی  
بھول چوک

4. Which item is capital expenditure for a sole trader?

- A. Additional capital brought into the business
- B. Drawings of the proprietor for his own use
- C. Expenditure on the improvement of fixed assets
- D. Expenditure to finance day-to-day expenses

واحد ملکیتی تاجر کے لیے کون سی چیز سرمایہ خرچ ہے؟  
اضافی سرمایہ جو کاروبار میں لایا گیا  
مالک کے ذاتی استعمال کی برداشتگی  
مستقل اثاثہ جات کی بہتری پر خرچ  
روز مرہ کے اخراجات

5. The bank statement of a business shows a bank overdraft of Rs. 1640 on 30<sup>th</sup> September, 2023. At that date there were uncredited cheques Rs. 380 and unpresented cheques of Rs. 460. What is the cash book balance at 30<sup>th</sup> September, 2023?

30 ستمبر 2023 کو کاروبار کے گوشوارہ بینک کا 1640 روپے ناموافق بیلنس ہے۔ اس تاریخ میں غیر جمع شدہ چک 380 روپے اور نہ پیش کردہ چیک 460 روپے ہیں۔ 30 ستمبر 2023 کو کیش بک کا بیلنس کیا ہے؟

- A. Rs. 1,560 debit
- B. Rs. 1,560 credit
- C. Rs. 1,720 debit
- D. Rs. 1,720 credit

1560 روپے ڈیبٹ  
1560 روپے کریڈٹ  
1720 روپے ڈیبٹ  
1720 روپے کریڈٹ

6. Resources minus Capital equals:

- A. Liabilities
- B. Assets
- C. Revenue
- D. Equity

وسائل منفی سرمایہ برابر ہوتا ہے  
ذمہ داریاں  
اثاثہ جات  
آمدن  
حق ملکیت

7. Mr. Aslam invested into business Rs. 40,000 it will be:

- A. Credited to Cash
- B. Debited to Cash
- C. Debited to Capital
- D. Debited to Equity

مسٹر اسلم نے کاروبار میں چالیس ہزار روپے کی سرمایہ کاری کی یہ ہوگی  
کیش کو کریڈٹ  
کیش کو ڈیبٹ  
سرمایہ کو ڈیبٹ  
حق ملکیت کو ڈیبٹ

8. A credit to an asset means that the asset has:

- A. Increased
- B. Decreased
- C. Purchased
- D. Acquired

ایک اثاثہ کو کریڈٹ کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ اثاثہ  
بڑھ گیا  
کم ہو گیا  
خرید کیا  
حاصل کیا

9. Book of original entry is called:

- A. Journal
- B. Ledger
- C. Modern book
- D. Pass book

ابتدائی اندراج کی کتاب کہلاتی ہے  
روز نامچہ  
لیجر  
ماڈرن کتاب  
پاس بک

10. Narration is always written :

- A. Above the entry
- B. Below the entry
- C. On the entry
- D. Beside the entry

وضاحت ہمیشہ لکھی جاتی ہے  
اندراج کے اوپر  
اندراج کے نیچے  
اندراج پر  
اندراج کے ساتھ

11. If the trial balance is not prepared, it is impossible to prepare:

- A. Cash book
- B. Pass book
- C. Bank reconciliation statement
- D. Financial statements

اگر ٹرائل بیلنس نہ تیار کیا جائے تو تیار کرنا ناممکن ہوتا ہے  
کیش بک  
پاس بک  
گوشوارہ تطبیق بینک  
مالیاتی گوشوارے

12. A bill, which is drawn and accepted in same country:

- A. Accommodation bill
- B. Inland bill
- C. Foreign bill
- D. Trade bill

وہ بل جو ایک ہی ملک میں مرتب اور قبول کیا جاتا ہے کہلاتا ہے  
امدادی بل  
ملکی بل  
غیر ملکی بل  
تجارتی بل

13. The drawer of the bill allows three additional days to the drawee for payment, these are called:

- A. Days of rebate
- B. Conditional days
- C. Additional days
- D. Days of grace

مرتب کنندہ بل کی ادائیگی کے لیے مرتب الیہ کو تین اضافی دنوں کی اجازت دیتا ہے یہ کہلاتے ہیں  
چھوٹ کے دن  
مشروط دن  
اضافی دن  
رعایتی دن

14. A bank reconciliation statement is usually prepared by:

- A. Auditor
- B. Banker
- C. Accountant of organization
- D. Secretary of organization

گوشوارہ تطبیق بینک کو عموماً تیار کرتا ہے  
آڈیٹر  
بینکر  
ادارے کا اکاؤنٹنٹ  
ادارے کا سیکرٹری

15. Freight in is a:

- A. Direct expense
- B. Indirect expense
- C. Operating expense
- D. Other expense

خریدے گئے مال تجارت کا بحری کرایہ ہے  
براہ راست خرچ  
بالواسطہ خرچ  
کاروبار چلانے کا خرچ  
دیگر خرچ

16. The statement which shows the financial position of a business at a particular date, is termed as:

- A. Bank reconciliation statement
- B. Bank statement
- C. Balance sheet
- D. Income statement

ایسا گوشوارہ جو کسی خاص تاریخ کو کاروبار کی مالی حالت ظاہر کرتا ہے کہلاتا ہے  
گوشوارہ تطبیق بینک  
گوشوارہ بینک  
بیلنس شیٹ  
گوشوارہ آمدن

17. Any expense which has been paid in advance, represents:

- A. An asset
- B. A liability
- C. An expense
- D. A payable expense

ایسا خرچہ جو پیشگی ادا کر دیا گیا ہو ظاہر کرتا ہے  
ایک اثاثہ  
ایک ذمہ داری  
ایک خرچ  
ایک واجب الادا خرچ

18. Interest on drawings in a business is:

- A. Income
- B. Asset
- C. Expense
- D. Liability

کاروبار میں برداشتگی پر سود ہے  
آمدن  
اثاثہ  
خرچ  
ذمہ داری

19. Expenditure incurred on advertising a new product is:

- A. Capital expenditure
- B. Revenue expenditure
- C. Deferred revenue expenditure
- D. Current expenditure

جو خرچہ نئی پیداوار کی تشہیر پر کیا جائے وہ ہے  
سرماوی خرچ  
مالیاتی خرچ  
التوائی مالیاتی خرچ  
روان خرچ

20. The error which affects the agreement of trial balance is:

- A. Error of omission
- B. Error of commission
- C. Error of principle
- D. Error of compensation

ایسی غلطی جو ٹرائل بیلنس کی مطابقت پر اثر انداز ہوتی ہے وہ ہے  
بھول چوک کی غلطی  
ارتکابی غلطی  
اصولی غلطی  
تلافی کی غلطی

# **BOARD OF INTERMEDIATE & SECONDARY EDUCATION, LAHORE**

## **PRINCIPLES OF ACCOUNTING PAPER I**

2

### **MODEL PAPER FOR ANNUAL EXAMINATION, 2024**

#### **KEY-OBJECTIVE TYPE**

TIME ALLOWED: 30 Minutes

MAXIMUM MARKS: 20

|     |   |                                                |                                 |
|-----|---|------------------------------------------------|---------------------------------|
| 1.  | D | Going concern concept                          | جاری کاروبار کا اصول            |
| 2.  | B | Rs. 150 debit                                  | 150 روپے ڈیبٹ                   |
| 3.  | A | Principle                                      | اصولی                           |
| 4.  | C | Expenditure on the improvement of fixed assets | مستقل اثاثہ جات کی بہتری پر خرچ |
| 5.  | D | Rs. 1,720 credit                               | 1720 روپے کریڈٹ                 |
| 6.  | A | Liabilities                                    | ذمہ داریاں                      |
| 7.  | B | Debited to Cash                                | کیش کو ڈیبٹ                     |
| 8.  | B | Decreased                                      | کم ہو گیا                       |
| 9.  | A | Journal                                        | روز نامہ                        |
| 10. | B | Below the entry                                | اندراج کے نیچے                  |
| 11. | D | Financial statements                           | مالیاتی گوشوارے                 |
| 12. | B | Inland bill                                    | ملکی بل                         |
| 13. | D | Days of grace                                  | رعایتی دن                       |
| 14. | C | Accountant of organization                     | ادارے کا اکاؤنٹنٹ               |
| 15. | A | Direct expense                                 | براہ راست خرچ                   |
| 16. | C | Balance sheet                                  | بیلنس شیٹ                       |
| 17. | A | An asset                                       | ایک اثاثہ                       |
| 18. | A | Income                                         | آمدن                            |
| 19. | C | Deferred revenue expenditure                   | التوائی مالیاتی خرچ             |
| 20. | B | Error of commission                            | ارتکابی غلطی                    |

# BOARD OF INTERMEDIATE & SECONDARY EDUCATION, LAHORE

## PRINCIPLES OF ACCOUNTING PAPER I

### MODEL PAPER FOR ANNUAL EXAMINATION, 2024

#### SUBJECTIVE TYPE

TIME ALLOWED: 2.30 hours

MAXIMUM MARKS: 80

#### (PART – I حصہ اول)

2. Write short answers to any Five (5) questions: کوئی سے پانچ (5) سوالات کے مختصر جوابات لکھیے
- (i) How would you explain the term "Cash Transaction"? آپ "نقد لین دین" کی اصطلاح کی وضاحت کیسے کریں گے؟
- (ii) If Assets = Rs. 1,50,000 and Capital = Rs. 1,30,000 then find out Liabilities =? اگر اثاثے ایک لاکھ پچاس ہزار روپے اور کپیٹل ایک لاکھ تیس ہزار روپے ہو تو پھر واجبات کا پتہ لگائیں؟
- (iii) Describe the two forms of compound entry. مرکب اندراج کی دو صورتیں بیان کریں۔
- (iv) What steps would you take to perform posting? پوسٹنگ کرنے کے لیے آپ کیا اقدامات کریں گے؟
- (v) If the total of debit side of an account is Rs. 70,000 and total of credit side of that account is Rs. 25,000 then find out the balance and nature of balance? اگر کسی کھاتہ کا کل ڈیبٹ سائیڈ ستر ہزار روپے ہو اور اسی کھاتہ کا کل کریڈٹ سائیڈ پچیس ہزار روپے ہو تو پھر اس کھاتے کا توازن اور توازن کی نوعیت معلوم کریں؟
- (vi) Explain Bank Reconciliation Statement. گوشوارہ تطبیق بینک کی وضاحت کریں۔
- (vii) Give four examples of real account. حقیقی کھاتہ کی چار مثالیں دیں۔
- (viii) What is meant by petty cash book? قلیل رقمی کیش بک سے کیا مراد ہے؟
3. Write short answers to any Five (5) questions: کوئی سے پانچ (5) سوالات کے مختصر جوابات لکھیے
- (i) Explain the difference between "Inland and Foreign bill". ملکی اور غیر ملکی ہنڈی کے درمیان فرق کی وضاحت کریں۔
- (ii) Describe the term "Payee". وصول کنندہ کی اصطلاح بیان کریں۔
- (iii) What is the effect of closing stock on final accounts, if given in Trial Balance? اگر اختتامی ذخیرہ ٹرانل بیلنس میں دیا گیا ہو تو اس کا حتمی کھاتوں پر کیا اثر ہوتا ہے؟
- (iv) Make adjusting entry for Depreciation on Furniture. فرنیچر پر فرسودگی کی ایڈجسٹنگ انٹری بنائیں۔
- (v) Elaborate the Intangible Assets. غیر مرئی اثاثہ جات کی وضاحت کریں۔
- (vi) What is meant by Revenue Receipt? مالیاتی وصولی سے کیا مراد ہے؟
- (vii) Write down two examples of capital expenditures. سرماوی اخراجات کی دو مثالیں لکھیں۔
- (viii) Describe two kinds of errors from rectification point of view. درستگی کے لحاظ سے غلطیوں کی دو اقسام بیان کریں۔

## (PART – II حصہ دوم)

Note: Attempt any THREE of the following questions. نوٹ: درج ذیل سوالات میں سے صرف تین کے جوابات لکھیے۔

4. Journalize the following transactions. مندرجہ ذیل لین دین کو جنرل میں درج کریں۔

- (i) Started business with cash Rs. 70,000 and building Rs. 1,30,000.  
70,000 روپے کیش اور 1,30,000 روپے کی عمارت سے کاروبار شروع کیا۔
- (ii) Purchased goods from Sultan Habib for Rs. 40,000.  
سلطان حبیب سے 40,000 روپے کی اشیاء خریدیں۔
- (iii) Sold goods for cash Rs. 25,000.  
25,000 ہزار روپے کی اشیاء نقد فروخت کیں۔
- (iv) Paid cash Rs. 39,500 to Sultan Habib in full settlement of his account.  
سلطان حبیب کو 39,500 روپے کیش ادا کر کے اس کا کھاتہ بے باک کر دیا۔
- (v) Purchased goods for cash Rs. 20,000 at trade discount @ 10%.  
20,000 روپے کی اشیاء 10 فیصد تجارتی رعایت پر نقد خریدیں۔
- (vi) Sold goods on account to Waqar for Rs. 10,000.  
وقار کو 10,000 روپے کی اشیاء ادھار فروخت کیں۔
- (vii) Received cash Rs. 9,800 from Waqar in full settlement of his account.  
وقار سے 9,800 روپے کیش وصول کر کے اس کا کھاتہ بے باک کر دیا۔
- (viii) Withdrew cash Rs. 2,500 for personal use.  
2,500 روپے کیش ذاتی استعمال کے لیے نکلوائے۔
- (ix) Paid Salaries Rs. 5,000.  
5,000 روپے تنخواہیں ادا کیں۔
- (x) Purchased furniture for cash Rs. 8,000.  
8,000 ہزار روپے کا فرنیچر نقد خریدا۔

5. From the following particulars, prepare bank reconciliation statement of Yaqoob as on 30<sup>th</sup> June, 2023.

یعقوب کی درج ذیل معلومات سے 30 جون 2023 کا گوشوارہ تطبیق بینک تیار کریں۔

- (i) Overdraft balance as per cash book Rs. 31,600.  
کیش بک کا ناموافق بیلنس 31,600 روپے
- (ii) Cheques deposited in bank but not credited in pass book Rs. 11,000.  
11,000 روپے کے چیک بینک میں جمع کروائے لیکن پاس بک میں کریڈٹ نہ ہوئے
- (iii) Cheques issued but not presented in bank Rs. 12,000.  
12,000 روپے کے چیک جاری کیے لیکن بینک میں پیش نہ کیے گئے
- (iv) There was a debit of Rs. 3,000 in pass book for bank charges but not recorded in cash book.  
3,000 روپے بینک چارجز پاس بک میں ڈیبٹ ہوئے لیکن کیش بک میں درج نہ ہوئے
- (v) A cheque of Rs. 2,400 was received, entered in cash book but omitted to be banked.  
2,400 روپے کا وصول شدہ چیک کیش بک میں درج کیا لیکن بینک میں جمع کروانا بھول گئے
- (vi) A customer deposited Rs. 5,000 into the bank account directly.  
5,000 روپے ایک گاہک نے براہ راست بینک میں جمع کروائے

6. Dildar sold goods to Irshad for Rs. 20,000 on 1<sup>st</sup> September, 2022 on credit and drew upon Irshad a bill for three months for the amount. Irshad accepted the bill and returned it to Dildar. On 4<sup>th</sup> September, 2022, Dildar discounted the bill with his banker at 15% p.a. On maturity, the bill was honoured. Give entries in the books of Dildar and Irshad.

یکم ستمبر 2022 کو دلدار نے ارشاد کو 20,000/- روپے کی اشیاء ادھار پر فروخت کیں اور ارشاد پر اس رقم کا تین ماہ کا بل مرتب کیا۔ ارشاد نے بل قبول کر کے دلدار کو واپس کر دیا۔ چار ستمبر 2022 کو دلدار نے 15 فیصد سالانہ پر بل اپنے بینک سے ڈسکاؤنٹ کروا لیا۔ مقررہ تاریخ پر بل کی ادائیگی ہو گئی۔ دلدار اور ارشاد کی کتابوں میں اندراج کریں۔

7. Prepare trading, profit and loss account and balance sheet from the given trial balance of Mr. Mushtaq as on 31<sup>st</sup> December, 2022.

مسٹر مشتاق کی مورخہ 31 دسمبر 2022 ٹرائل بیلنس کی مدد سے تجارتی، نفع و نقصان کا کھاتہ اور بیلنس شیٹ تیار کریں۔

| Particulars      | Debit Rs.       | Credit Rs.      |
|------------------|-----------------|-----------------|
| Opening stock    | 60,000          |                 |
| Purchases        | 90,000          |                 |
| Wages            | 4,000           |                 |
| Sales Return     | 1,000           |                 |
| Salaries         | 40,000          |                 |
| Insurance        | 3,000           |                 |
| Furniture        | 40,000          |                 |
| Building         | 70,000          |                 |
| Debtors          | 52,000          |                 |
| Capital          |                 | 1,60,000        |
| Sales            |                 | 1,48,000        |
| Creditors        |                 | 50,000          |
| Purchases Return |                 | 2,000           |
| <b>Total</b>     | <b>3,60,000</b> | <b>3,60,000</b> |

#### Adjustments:

- Closing stock Rs. 90,000
- Outstanding salaries Rs. 4,000
- Depreciation on furniture @ 10% p.a.
- Insurance paid in advance Rs. 1,000

#### تصحیحات

- اختتامی ذخیرہ 90,000 روپے
- واجب الادا تنخواہیں 4,000 روپے
- 10 فیصد سالانہ فرسودگی برائے فرنیچر
- مبلغ 1,000 روپے بیمہ پیشگی ادا کیا

8. State with reasons whether the following items are capital or revenue.

وجوہات سے بیان کریں کہ درج ذیل سرماوی ہیں یا مالیاتی۔

- Wages paid on installing new machinery.  
نئی مشینری کی تنصیب کے لیے اجرتوں کی ادائیگی۔
- Cost of construction of building  
عمارت کی تعمیر کی لاگت۔
- Cost of air conditioning the office.  
دفتر میں اینر کنڈیشنر لگوانے کی لاگت۔
- Painting expenditure of newly constructed building.  
نئی تعمیر شدہ عمارت کو روغن کروانے کے اخراجات۔
- Depreciation on machinery.  
مشینری پر فرسودگی۔
- Change of engine oil of truck.  
ٹرک کے انجن ائل کی تبدیلی۔
- Legal expenses incurred in an income tax appeal.  
انکم ٹیکس کی اپیل پر قانونی اخراجات۔
- Loss from sale of machinery.  
مشینری کو فروخت کرنے پر نقصان۔
- Old furniture was repaired.  
پرانے فرنیچر کی مرمت۔
- Amount realised from the sale of old furniture.  
پرانے فرنیچر فروخت کرنے پر رقم کی وصولی۔

9. Rectifying the following errors.

درج ذیل غلطیوں کی درستگی کریں۔ 2

- (i) Purchase of goods of Rs. 6,000 debited to furniture account.  
6,000 روپے اشیاء کی خرید کو فرنیچر کے کھاتے میں ڈیبٹ کر دیا۔
- (ii) Purchases book under cast by Rs. 2,000  
روزنامہ خرید کو 2,000 روپے سے کم میزان کیا گیا۔
- (iii) Sale to Sameer Rs. 7,000 credited to his account.  
7,000 روپے کی اشیاء سمیر کو فروخت کیں لیکن اس کے کھاتے کو کریڈٹ کر دیا گیا۔
- (iv) Machinery bought Rs. 4,000 posted as purchases.  
4,000 روپے سے مشینری کی خریداری کو خرید کے کھاتے میں درج کر دیا گیا۔
- (v) Received Rs. 1,000 from Jamal wrongly credited to Jamil.  
1,000 روپے کی جمال سے وصولی کو جمیل کے کھاتے میں کریڈٹ کر دیا گیا۔
- (vi) Discount of Rs. 500 allowed to customer have been debited to reserve account.  
ایک گاہک کو 500 روپے کی رعایت ادائیگی کو گنجائش کے کھاتے میں ڈیبٹ کر دیا گیا۔
- (vii) The sales book over cast by Rs. 2,000.  
روزنامہ فروخت کو 2,000 روپے سے زائد میزان کیا گیا۔
- (viii) Credit purchases of Rs. 15,000 were not recorded in the books.  
15,000 روپے کی ادھار خرید کو کھاتوں میں درج نہیں کیا گیا۔